

تَعْدِيد سُرْتَه مُرْسَلٌ 3/68 ح. (مُوْسَى خَانْجَاه)

تَعْدِيد سُرْتَه مُرْسَلٌ 8/88

كَلْفَاجَه مُرْسَلٌ III مَوْرُث 86 وَسَرْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه

3 حِدَارَجَه مُرْسَلٌ 1409

12 كَلْفَاجَه مُرْسَلٌ 1988

تَعْدِيد سُرْتَه



تَعْدِيد سُرْتَه مُرْسَلٌ 3/68 ح. (مُوْسَى خَانْجَاه)

كَلْفَاجَه III "سَوْمَرَه مُبَشِّرٌ" دِسْتَه مُرْسَلٌ كَلْفَاجَه
هَامَرْه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُرْسَلٌ كَلْفَاجَه.

1. تَعْدِيد سُرْتَه مُرْسَلٌ 3/68 ح. (مُوْسَى خَانْجَاه) كَلْفَاجَه
III "سَوْمَرَه مُبَشِّرٌ" دِسْتَه مُرْسَلٌ كَلْفَاجَه
"دِسْتَه مُبَشِّرٌ" دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه دِسْتَه مُبَشِّرٌ
سَرْتَه "دِسْتَه مُبَشِّرٌ" دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه دِسْتَه مُبَشِّرٌ
دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه، دِسْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ
سَرْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه.

دِسْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه

(1) دِسْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه

دِسْتَه مُبَشِّرٌ دِسْتَه مُبَشِّرٌ كَلْفَاجَه



وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُحُ نَسَبَهُ إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُحُ

(4) عَمَدَتْ حَرَقَةٌ تِيْ سُرِّيْرِيْ مُنْسِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ،
سُرِّيْرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ مُنْسِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ مُنْسِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ،
دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ،
دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ دَسْرِوْبِرِيْ.

(5) دَعْوَةٌ مُّعَذَّبَةٌ مُّعَذَّبَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ
دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ
دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ
دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ دَعْوَةٌ

٢- تیٰ سوئیز سرئورہ سر 3/68 ج. (متوسط خودکاروں)
 مکر رج سر III "سرے خودکاری میز" دسویں
 خودکاروں "دسویں سوچیں اور رخوم" کی سریز "دسویں سوچیں
 اور رخوم مانند فخر و سر" دسرا دسرا فخر دسرا،
 اور دسویں سوچیں دیزیں دلکھریں اور دسرا دلکھریں میں دلکھریں۔
 دلکھر دلکھر دلکھر



سُلْطَانِيَّةِ مَرْكُزِيَّةِ رَجُوْنَ وَجَنَّوْنَ

۲۰۱۷ء میں اپنے پورے کام کا اعلان کر دیا۔ (2)

عَرْجَةٌ كُلُّ عَرْجَةٍ مُمْتَنَىٰ وَسِرْجَرَةٌ (3)

وَتَنْبِهُ حِلْقَرْ وَيَنْزِلُ مَدْرَسَةَ سَعَادَةَ، وَتَرْسِيهُ سَرَّهُ وَهَرَوْغَير
وَعِصَمَرَّهُ مَدْرَسَةَ سَرَّهُ تَرْجِفُ مَدْرَسَهُ وَتَنْبِهُ سَعَادَةَ حِلْقَرْ
وَتَنْبِهُ سَعَادَةَ حِلْقَرْ وَيَنْزِلُ مَدْرَسَهُ، وَيَنْزِلُ سَعَادَةَ بَيْهُقَفُ طَحْفَهُ
وَتَنْبِهُ سَعَادَةَ حِلْقَرْ وَيَنْزِلُ مَدْرَسَهُ، وَيَنْزِلُ سَعَادَةَ بَيْهُقَفُ طَحْفَهُ
وَتَنْبِهُ سَعَادَةَ حِلْقَرْ وَيَنْزِلُ مَدْرَسَهُ، وَيَنْزِلُ سَعَادَةَ بَيْهُقَفُ طَحْفَهُ
وَتَنْبِهُ سَعَادَةَ حِلْقَرْ وَيَنْزِلُ مَدْرَسَهُ، وَيَنْزِلُ سَعَادَةَ بَيْهُقَفُ طَحْفَهُ

۴

وَسِرْرَةٍ دَعَوْتُ دَوْمَنَةً وَهَرَفَةً دَرْبَرَةً سَرَّجَةً فَرَحَةً مَوَاهِيَةً
وَزَسَرَةً سَرْبَيَةً مَهَاهِيَةً سَهَاهِيَةً كَهَاهِيَةً مَهَاهِيَةً سَهَاهِيَةً



۱۰) دیگر آنها عذرخواهی می‌کنند که سعادتمندی و هم‌مردمی

جَعْلَةٌ جَعْلَةٌ سُونَعٌ بِرْجَانٌ رَّجْمَنٌ مَّدْنَةٌ وَرَخْرَقٌ أَسْمَانٌ مَّيْرَبْرَوْ.

(6) مَحْمُودٌ وَعِصَمٌ تَسْرِيرُهُ وَرَبِّيْ عَدْنَانٌ تَسْرِيرُهُ، مَحْمُودٌ وَعِصَمٌ

شُرُفْهُ عَوْنَّا وَهُوَ حِلْمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ حِلْمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

وَمَنْ يُعِظُّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٣. (جۇستۇرۇش سەزىمەت) 3/68 .

مکی فوجہ سر III "سے تحریر کیا گئی میں نہیں" دستوری خانہ پر
حریت کی دعویٰ "جیسا کہ میں اپنے بھروسے کیا گئی میں نہیں" دستوری خانہ پر
کیا میں نہیں" دستوری خانہ کیا گئی میں نہیں" دستوری خانہ پر
دستوری خانہ پر، اُن جیسا کہ میں اپنے بھروسے کیا گئی میں نہیں

جَوَافِعُ الْمَسْكُنِ

(2) حِرْفُو رَجَّالِيْهِ عَلَى مَدِيْنَةِ دَمْشِقِيْهِ وَعَلَى مَدِيْنَةِ حَمَّاَيِّهِ فَإِنْ كَانَتْ مَوَّالِيْهِ مُؤْمِنَةً يَسْأَلُهُ سَرَّهُ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَوَّالِيْهِ رَجَّالِيْهِ فَلَا يَسْأَلُهُ سَرَّهُ وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ.



(3) حروفی که در اینجا دیده شده اند میتوانند در اینجا نیز بخوانند و خواسته شوند.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1) گلچین و ترجیح پذیری و خودنمایی استوار می‌باید،
که در آن سه خرچه در شرکت‌های تولیدی پذیری و خودنمایی نباشد و هر چهارمین فرد باید
(2) کارخانه سرومه که در سه خرچه قوچی و پیش‌خودی کارخانه باشد
و دویست هزاری میلیون فرد خودنمایی و خودنمایی سه‌تایی را در خود داشته باشد
که خود را پیش‌خودی کارخانه در گلچین و ترجیح پذیری نمایند. و این در پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی
سوخه و می‌دانند که این سه خرچه پذیری نمایند. و این در پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی
و سه‌تایی کارخانه پذیری نمایند و در ۱۹۴۴ میلادی سه خرچه پذیری کارخانه سه‌تایی
پذیری نمایند. "پیش‌خودی" سه‌تایی و سه‌تایی کارخانه سه‌تایی پذیری نمایند و سه خرچه پذیری
سوخه و می‌دانند که این سه خرچه پذیری نمایند. و این در پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی
سه‌تایی، راهنمایی و خودنمایی کارخانه را فرموده و پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی
پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی سرومه و خودنمایی و خودنمایی کارخانه سه‌تایی
و پیش‌خودی کارخانه سه‌تایی کارخانه سه‌تایی کارخانه سه‌تایی



جَنْدُونْتَ مَهْرَجَعْنَهْ كَهْمَرْجَعْ

وَتَسْرِيرُ دَيْمَرٍ مِّنْ بَحْرٍ وَدَمْرُورُ سَهَّلٍ

۱. مراجعت دعی و محرومی دستورات امور مسکن و شهرسازی
دستورات خود را، فرماندهی و نهادهای امور مسکن و شهرسازی
پروردگاری حسوسیه همچنان دستورات امور اداری و مدنی،
دستورات دعی و محرومی دعی و محرومی دعی و محرومی دستورات خود را
آنها که در فرماندهی دستورات دعی و محرومی دعی و محرومی دستورات خود را

2. ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“ ”أَفَرَدَنْ“ ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“
”لَكُمْ سُوْجٌ مَيْزَنْ“ ”أَفَرَدَنْ“ ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“ ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“
”أَفَرَدَنْ“ ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“ ”لَكُمْ سُوْجٌ مَيْزَنْ“ ”أَفَرَدَنْ“ ”لَكُمْ حُرْسٌ مَوْهَنْ“

3. میوویز خارجی همچویی، درین مرحله از
شجره میوه و قرمه و گلخانه درین مرحله داشته باشند و قرمه، گلخانه
دیگر نمیشه باشند و قرمه و گلخانه درین مرحله داشته باشند و قرمه، گلخانه

